



سوال

(61) حاملہ عورت سے صحبت کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا حاملہ عورت سے اس کا شوہر صحبت کر سکتا ہے کتاب و سنت میں اس کا کیا حکم ہے۔ (ایک سائل، لاہور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آدمی کے لئے اپنی حاملہ عورت سے جماع کرنا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ (لَسَاءَ لَكُمْ حَزْبٌ لَكُمْ۔۔۔ البقرة: 223)

"تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتی ہے۔"

دوسری جگہ فرمایا ہے :

"مومن لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں البتہ اپنی بیویوں اور باندیوں سے نہیں۔" (المومنون: 5، 6)

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مطلقاً ازواج کے ساتھ صحبت کو جائز رکھا ہے منع وہاں ہوگا جہاں کوئی دلیل ہوگی۔ لہذا حالت حمل میں منع نہیں کیا گیا اس لئے آدمی صحبت کر سکتا ہے۔ دوران حیض صحبت منع ہے اسی طرح پچھلے حصے میں صحبت بھی منع ہے۔ حدیث میں ایسے شخص پر لعنت وارد ہے کیونکہ وہ گندگی اور نجاست کا محل ہے۔ نفاس کی حالت میں بھی ممانعت کا ہی حکم ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

تفہیم دین

کتاب الطہارۃ، صفحہ: 101



محدث فتویٰ